



آتش بازی کے سامان کے فروخت کنندگان کی آن لائن ٹریننگ کا آغاز

برامپٹن، آن (15 اپریل 2021) – سٹی آف برامپٹن نے سامان آتش بازی کے ایسے فروخت کنندگان کے لیے آن لائن تربیت کے عمل کا آغاز کر دیا ہے جو اس سال آتش بازی کا سامان فروخت کرنا چاہتے ہیں۔

آتش بازی کا سامان فروخت کرنے کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ لازمی ہے اور اس کورس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔

کورس میں رجسٹر ہونے کے لیے فروخت کنندگان برامپٹن فائر پریوینشن ڈویژن کو 905.874.2740 پر کال یا بذریعہ ای میل fire.prevention@brampton.ca رابطہ سکتے ہیں، اور درخواست دہندگان کو کورس کی تفصیلات ای میل کر دی جائیں گی۔

کووڈ-19 کی وجہ سے صحت و تحفظ کی لاگو شدہ پابندیوں کی بناء پر یہ تربیتی کورس درج ذیل پانچ آسان مراحل میں آن لائن طور پر پیش کیا جائے گا:

1. 2021 فائر ورکس ریٹیلر کورس کے لیے ادائیگی جمع کرائیں اور www.brampton.ca/skiptheline کے درخواست دیں۔
2. فائر ورکس ریٹیلر ٹریننگ ویڈیوز دیکھیں
3. فائر ورکس ریٹیلر سوالنامہ مکمل کریں
4. لائسنس کی درخواست اور رجسٹریشن فیس جمع کرائیں۔ تفصیلات کے لیے licensing@brampton.ca پر رابطہ کریں۔
5. سٹی ہال سے ذاتی طور پر 2021 فائر ورکس ریٹیلر لائسنس وصول کریں۔ سٹی ہال میں تشریف لانے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا لازمی ہے اور بذریعہ www.brampton.ca/skiptheline بک کرائی جا سکتی ہے

سامان آتش بازی کے فروخت کنندگان کی تربیت میں فروخت کے لیے منظور شدہ آتش بازیوں کی اقسام، ذخیرہ کرنے، نمائش اور فروخت کے قواعد، خریداروں کے لیے شناخت کی شرط اور ڈسٹریبیوشن کے لیے حفاظتی رہنما خطوط شامل ہوں گے

ایسے فروخت کنندگان جو ایک سے زیادہ مقامات سے کام کرتے ہوں، ان کے ہر مقام سے کم از کم ایک آپریٹر کو یہ کورس لازمی مکمل کرنا چاہیے۔ فائر انسپیکشن کے لیے درخواست دینے کے حوالے سے، فروخت کنندگان کو درج ذیل آخری تاریخیں بھی لازمی نوٹ کرنی چاہیں:

- جمعہ، 30 اپریل 2021 برائے وکٹوریہ ڈے فائر ورکس
- جمعہ، 11 جون 2021 برائے کینیڈا ڈے فائر ورکس
- جمعہ، 15 اکتوبر 2021 برائے دیوالی فائر ورکس
- جمعہ، 10 دسمبر 2021 برائے نیو ایئرز ایوو فائر ورکس

سٹی آف برامپٹن کے فائر ورکس بائی لاز کے مطابق سال میں صرف چار بار - یعنی وکٹوریہ ڈے، کینیڈا ڈے، دیوالی اور نیو ایئرز ایوو کے موقع پر صرف مختصر فاصلے والے آتش بازی (جو 3 میٹر یا 10 فٹ سے بھی کم فاصلے پر جاتی ہو) کی فروخت اور ذاتی استعمال کی اجازت ہوتی ہے۔